

PRESS RELEASE

For immediate release

June 2, 2023

ایس ای سی پی نے اجتماعی سرمایہ کاری اسکیموں کے لیے درجہ بندی کی ضروریات متعین کر دیں

اسلام آباد، 3 جون: سرمایہ کاروں کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اوپن اینڈ اجتماعی سرمایہ کاری اسکیموں کے مختصر مدتی قرض کے انسٹرومنٹس میں سرمایہ کاری کے لیے درجہ بندی کے نئے تقاضے متعین کیے ہیں جن کو 2023 کے سرکلر نمبر 9 کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ سرکلر ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

نئے تقاضوں کو 2009 کے سرکلر نمبر 7 (اوپن-اینڈ اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیموں کی درجہ بندی) میں ترامیم کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ ترامیم میوچل فنڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان، پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ، اور وی آئی ایس کریڈٹ ریٹنگ کمپنی لمیٹڈ کی مشاورت سے متعارف کرائی گئی ہیں۔

مذکورہ ترامیم کے ذریعے، منی مارکیٹ اسکیم کے پورٹ فولیو میں کسی بھی مختصر مدت کی سیکیورٹی کی کریڈٹ ریٹنگ A1 (A One) سے کم نہیں ہوگی، جب کہ انکم اسکیموں کی صورت میں، پورٹ فولیو میں کسی بھی مختصر مدتی سیکیورٹی کی درجہ بندی A 3 (A Three) سے کم نہیں ہوگی۔ مزید برآں، شریعت کے مطابق (اسلامی) اسکیم کی صورت میں، پورٹ فولیو میں قلیل مدتی آلات کی درجہ بندی A 2 (A Two) سے کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح، سیلنڈر اسکیم کے معاملے میں، پورٹ فولیو میں کسی بھی مختصر مدت کے قرض کی حفاظت کی درجہ بندی A 2 (A Two) سے کم نہیں ہوگی۔

ایسی ایسیٹ منجمنٹ کمپنیاں جن کی اوپن-اینڈ اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیمیں پہلے ہی کم درجہ بندی کے مختصر مدتی قرض انسٹرومنٹس کی ہیں، وہ سرکلر کی اشاعت کی تاریخ سے چھ (6) ماہ کی مدت کے اندر نئے تقاضوں کی تعمیل کی پابند ہوں گی۔